

# محفوظ کشتی رانی سے متعلق 10 نکات

اوسطاً، ہر سال 140 کینیڈین شہری کشتی رانی سے متعلق وقوعات میں غرقاب ہوجاتے ہیں۔ ان میں سے 80 فیصد سے زیادہ مرد ہوتے ہیں۔ ان میں 90 فیصد سے زائد افراد لائف جیکٹس (زندگی بچانے والے جیکٹس) نہیں پہنے ہوتے ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے، آپ اپنی سیٹ بیلٹ اس وجہ سے باندھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حادثہ پیش آجانے کی صورت میں آپ کے پاس اسے باندھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ پانی میں ریتے ہوئے، لائف جیکٹ کے بارے میں بھی اسی انداز میں سوچیں۔ اگر آپ اسے نہیں پہنیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔

## محفوظ کشتی رانی کے نکات:

1. ٹھنڈا پانی آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانے کے جھٹکے کے لئے تیار رہیں۔ ہمیشہ لائف جیکٹ پہنیں۔
2. ایک ساتھ شراب نوشی اور کشتی رانی نہ کریں۔ شراب کو ساحل پر ہی چھوڑ دیں۔
3. پیشگوئی کی معلومات حاصل کر لیں۔ اگر موسم خراب ہو رہا ہے تو فوراً ساحل پر واپس لوٹ آئیں۔
4. ہائڈرو الیکٹرک اسٹیشنوں اور باندھوں کے قریب سبھی انتباہی علامات اور نشانات کی پابندی کریں؛ پانی سیکنڈوں میں ہی پرسکون حالت سے بلاکت خیز طوفان میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ "دور رہیں، محفوظ رہیں"۔
5. پاور بوٹس کو ذمہ دارانہ انداز میں چلائیں۔ مناسب رفتار رکھیں خاص کر جب پانی متلاطم ہو۔
6. نشست پر بیٹھے رہیں! آپ چھوٹی پاور بوٹ، ڈونگی یا کایاک سے بہ آسانی نیچے گرسکتے ہیں۔
7. تیار رہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی ناؤ میں مطلوبہ حفاظتی سازوسامان اور کافی مقدار میں ایندھن موجود ہے۔
8. پانی میں رہنے کے دوران ایک VHF ریڈیو یا سیل فون اپنے ساتھ لے جائیں۔
9. ہمیشہ کسی فرد کو بتا کر جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس آئیں گے۔
10. تربیت حاصل کر لیں۔ غیر متوقع طور پر پانی میں گرجانے پر بچاؤ کا طریقہ جان لیں۔

کشتی رانی سے متعلق حفاظتی نکات آپ کے سامنے لائف سیونگ سوسائٹی اور اونٹاریو پاور جنریشن کے ذریعہ پیش کئے گئے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے [www.lifesavingsociety.com](http://www.lifesavingsociety.com) پر جائیں۔